



سوال

(180) کیا اس کو بروقیامت بھی سزا ہوگی؟

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

زید نے زنا کاری شراب خوری کرنے کے جرم میں اپنی برادری میں لپٹے گناہوں کی دنیاوی سزا پائی یا گورنمنٹ کی عدالت میں لپٹے گناہوں کے جرم میں سزا پائی لیکن جمیل میں گیا یا جرم نے کاروبار ادا کیا۔ تو کیا اس کو بروقیامت بھی سزا ہوگی۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حدیث شریف میں ہے۔ الحدود کفارات۔ شرعی سزائیں کفارہ ہیں۔ برادری اور انگریزی سزا کی بابت ایسا ارشاد نہیں آیا۔ تاہم دل سے توبہ کرے تو بخشش کی امید ہے۔ ان شاء اللہ

تعاقب پر تعاقب و دعوت ختمہ

25 رجب 1330 ہجری کے پرچہ اہل حدیث میں مولوی محمد اسحاق صاحب کا تعاقب و درباہ دعوت ختمہ کے شائع ہوا ہے دعوت ختمہ مستحب نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ خاکسار کا کچھ اس میں کلام ہے۔ میرے ناقص خیال میں اگر دعوت ختمہ میں اگر کوئی ناجائز کام نہ ہو تو اس کی اجابت مستحب اور جائز ہے۔ جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ختمہ کی دعوت کو دعوت مستحبہ میں بیان کیا ہے۔

قال اصحابنا وغيرهم الضیافات ثمانية انواع الولیمة للعرس والحرس للولادة والاعزاز للحنان والوكیر ببناء والتقیة لقدم المسافر والعقیة بلام سابع الولاة والوضیمة الطعام عند المصیبة والامانة الطعام بلا سبب

ترجمہ۔ علمائے شافعیہ وغیرہ فرماتے ہیں۔ دعوتیں آٹھ قسم پر ہیں۔ دعوت ولیمہ دعوت خرس اولاد پیدا ہونے کے وقت اور دعوت اندار ختمہ کے وقت اور دعوت وکیرہ۔ مکان کی تعمیر کے وقت اور نفعیہ مسافر کی آمد و رفت عقیقہ ولادت کے بعد ساتویں دن اور وضیمہ مصیبت کے وقت ارما دہ بغیر کسی سبب کے اور نیز دعوت ختمہ کی اجازت عمومیت مسلم کی حدیث سے فلیحج عرسا کان اونحوہ ثابت ہے اور کان عبد اللہ یاتی دعوات فی العرس وغیرہ العرس۔

